



سوال

(50) سونے کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ظہر یا عصر کی نماز سے پہلے بیت الحرام میں سوجاتے ہیں اور پھر جب لوگوں کو بیدار کرنے والا آتا ہے تو وہ وضو کے بغیر اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بعض عورتیں بھی اسی طرح کرتی ہیں تو اس سلسلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب نیند اس قدر گہری ہو کہ شعور زائل ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ صحابی صفوان بن عسال مروی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور تین راتیں تک اپنے موزوں کو نہ اتاریں ہاں البتہ حالت جنابت میں انہیں ضرور اتارنا ہوگا لیکن بول براز اور نیند کی وجہ سے انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کو نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے، (یہ الفاظ ترمذی کی روایت کے ہیں اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے) اور حجت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "آنکھ دبر کا تسمہ ہے، جب آنکھیں سوجاتی ہیں تو یہ تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔" اسے احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے تاہم اس کے شواہد موجود ہیں جن سے اس روایت کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے مثلاً حضرت صفوان رضی اللہ عنہ مروی مذکورہ حدیث اور اس طرح یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ اس معلوم ہوا کہ جو مرد یا عورت مسجد حرام یا کسی بھی اور جگہ سوجائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لہذا اسے وضو کرنا ہوگا اور اگر اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو اس کی یہ نماز صحیح نہ ہوگی۔ شرعی وضو یہ ہے کہ گلی کرنے اور ناک صاف کرنے کے ساتھ چہرے کو دھویا جائے، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا جائے، کانوں کی سمت سر کا مسح کیا جائے اور ٹخنوں کی سمت دونوں پاؤں کو دھویا جائے۔ یاد رہے نیند، ہوا کے خروج، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے اور اونٹ کو گوشت کھانے کی صورت میں وضو کرنے سے پہلے استنجاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو سے پہلے استنجاء یا ڈھیلا ہونا استعمال تو اس وقت واجب ہے جب بول و براز کیا ہو یا کوئی اور ایسی صورت ہو جو ان کے ہم معنی ہو، باقی رہی اونگھ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اونگھ کی صورت میں شعور ختم نہیں ہوتا اور اس طرح اس باب میں وادشدہ مختلف احادیث میں تطبیق بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

حدا ما عنہ فی العلم بالصواب

مقالات و فتاویٰ



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

ص 204

محدث فتویٰ